

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_226657

UNIVERSAL
LIBRARY

The Book Was Drinched

جمہ حقوق بنی شریعہ

استخارہ قرآنیہ

یعنی وہ

قرعہ شریفہ

جو شیخ اکبر محی الدین بن عزیزی قدس اللہ رتبه نے
آیات قرآن مجید سے بطریق معجزانہ مرتب کیا
اور ہے

مولوی فتح محمد خاں صاحب جالندھری نے ترجمہ اردو اور تفسیر
و تسبیل استخراج فال سے افادت عام کے لئے آسان کر کے

استخارہ قرآنیہ

کے لقب سے بلقب کیا

۱۹۱۸ء

پرنٹنگ سٹیم پریس لاہور میں باہتمام لالہ دیوان محمد پر مشتمل

پرنٹنگ سٹیم پریس لاہور میں باہتمام لالہ دیوان محمد پر مشتمل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حَامِدًا وَمُصَلِّيًا

دیباچہ

یہ خواہش انسان کی سرشت میں داخل ہے کہ اسکو اپنے افعال و اعمال کے منافع و مضار قبل اس سے کہ وہ وقوع میں آئیں یا ان کے نتائج و عواقب بعد اس کے کہ وہ وقوع میں آسکیں معلوم ہو جائیں۔ امر اول کے لئے دو طریق معین و معترف ہیں ایک استشارہ ایک استخارہ۔ استشارہ دوسروں سے صلاح اور مشورہ لینے کو کہتے ہیں استخارہ غیب سے کسی امر کے خیر و شر اور انجام سے آگاہی حاصل کرنے کو۔

بہات الامور میں تو بجز مشاورت کام ہی نہیں چل سکتا اور انتظام سلطنت کا مدار ہی مشورے پر ہوتا ہے چنانچہ وزیر اسی کام کے لئے ہوتے ہیں کہ نظم و نسق مملکت میں ان سے صلاح لی جائے قرآن مجید میں بھی یہ ارشاد ہے
 لَمْ يَشْكُرُوْهُمْ فِي الْاَمْْرِ لِيْنٰ لِيْ سِيْمِمْ لِيْنِ
 کاموں میں ان (اپنے اصحاب) سے مشورت کر لیا کہ وہ میری جگہ جہاں خدا نے تعالیٰ مومنوں کی تعریف فرماتا ہے وہاں ان کی اور قابل تحسین باتوں میں اس بات کی بھی تعریف فرماتا ہے کہ وہ اپنے کام آپس کے مشورے سے انجام دیتے ہیں۔

استخارہ کے تعویض خدا تعالیٰ سے بہتری پانے کے ہیں

چنانچہ فرمایا ہے۔ **وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ** ایک شاور عربی نے مشورے کی ضرورت اور حکمت اور منفعت نہایت دلنشین طریق سے بیان کی ہے۔ وہ کہتا ہے

اقرب ہوا یک دای غیرہ واستشر فالرأی لایخفی علی الاثنین
 المرمر آتہ تربیہ وجہہ
 یعنی جو کام کرنا چاہو اس میں دوسرے کی رائے اور صلاح بھی لیا کرو
 کیونکہ درمخضوں کی صلاح کے معاملے کے سب پہلو ظاہر ہو جاتے ہیں آدمی
 کی مثال اچھے کی طرح کہ اس میں طرف اس کا چہرہ دکھاتی دیتا ہے لیکن جب
 دو آئینے آمنے سامنے رکھے جائیں تو جانب پشت بھی نظر آجاتی ہے +

استخارے میں جیسا کہ پہلے لکھا گیا ہے ہر آئینے سے مشورہ لیا جاتا ہے۔
 چنانچہ جو استخارہ حضرت سرور کائنات صلے اللہ علیہ وسلم سے مروی
 ہے اس کا ایک جزو ہے کہ لے لے قد اگر یہ کام تیرے علم میں میرے لئے
 دین اور دنیا اور انجام کار میں بہتر ہو تو اسے میرے لئے مقدر کر اور آسان
 کر اور اس میں میرے لئے برکت پیدا کر اور اگر وہ تیرے علم میں میرے لئے
 دین اور دنیا اور انجام کار میں برا ہو تو اس کو مجھ سے ہٹا لے اور میرے
 دل کو اس سے پھیرے +

ہر کیف استشارہ اور استخارہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جو شخص ان سے
 کام لیتا ہے وہ نفع حاصل کرنا اور ضرر سے بچ جاتا ہے۔ بہت صحیح
 ارشاد ہوا ہے کہ **ساختاب من استخار و لاند من استشار** یعنی جو
 شخص استخارہ کرتا ہے وہ نقصان نہیں اٹھاتا اور جو مشورے سے کام لیتا
 ہے اسے بچتا نہیں پڑتا +

امر ثانی یعنی وہ کام جو وقوع میں آچکا ہو اس کا انجام جسکو کوئی نہیں
 جانتا اور جس میں انسان کی رائے کو دخل نہیں ہو سکتا صرف استخارے

سے معلوم کیا جاتا ہے ایسے استخارے کے ادویئے کرام نے کئی ایفہ
مقرر کئے ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی دعا پڑھ کر سو رہتے
ہیں اور خواب میں کوئی شخص اس کام کا انجام بتا جاتا ہے کبھی کوئی
نقش لکھ کر سونے زفت سر کے نیچے کھیلنے ہیں اور معالے کا انجام معلوم
ہو جاتا ہے جیسا کہ اس فن کی کتابوں میں مذکور ہے *

منجملہ اور طریقوں کے ایک طریقہ قرآن مجید سے فال لینے کا ہے کیونکہ
قرآن مجید کی نسبت عامہ اہل اسلام ہر سب کمال حسن اعتقاد رکھتے ہیں
اور جو فال اسکی آیتوں سے نکلے اس کو من جانب اللہ خیال کرتے ہیں
اسی بنا پر شیخ اکبر محی الدین بن عربی نے آیات قرآن مجید سے چھ صد

اوراق کا ایک مجموعہ لطیفہ معروف بہ قرعہ شریفہ مرتب کیا ہے اور ایسا
استخارہ جس سے کسی کام کا مال کسید طرح کی محنت اور زحمت کے بغیر معلوم
کیا جاسے وہ یہی ہے ہمیں بھی اس قرعہ شریفہ میں سے بعض امور کی نائش کا اتفاق
ہوا ہے چنانچہ لڑھیانے کے رئیس اعظم خواجہ احد شاہ صاحب (جو نقشب
گورنر بہادر پنجاب کی کونسل کے ممبر بھی رہ چکے ہیں) ان کی نسبت پچھلے
دنوں بعض مقدمات میں جو ان پر دائر تھے قید کی سزا کا حکم صادر ہوا۔

اور خواجہ صاحب کی طرف سے اس حکم کی تفسیح کیلئے چیف کورٹ میں اپیل
دار کیا گیا چونکہ اس قرعے میں ایک یہ عنوان بھی تھا لا محبوس یتخلص املا
یعنی جس شخص کے بارے میں قید کا حکم ہوا ہے وہ مخلص پائیگا یا نہیں اس لئے
ہم نے ۶ ارباب روانہ کو بمقام لاہور آیات قرآن مندرجہ قرعہ شریفہ کے ذریعے سے
خواجہ صاحب کے متعلق حجان چیف کورٹ کا حکم جس سے ابھی صفحات قرطاس میں

کی شکل اختیار نہیں کی تھی اور جس کا انتظار ہو رہا تھا معلوم کرنا چاہا تو یہ آیت
نکلی لیکن انجبتہ الامم ہذہ کنگوہ من من الشاکرین اور اس کے نیچے لکھا
تھا مخلص باذن اللہ چنانچہ ہم نے اسی روز خواجہ صاحب کے جسے ہمیں مطلق

تعارف نہ تھا اس مضمون کا خط لکھا کہ ان کی نسبت قرآن مجید
کی آیت مذکورہ سے مخلصی کی بشارت معلوم ہوئی ہے اس لئے انہیں
اپنے دل کو قوی اور مطمئن رکھنا چاہئے ابھی پانچ ہی روز گزریے تھے کہ کھلا
اجلوات سے معلوم ہوا کہ ججان چیف کورٹ نے ان کی نسبت حکم رہائی
صادر کیا ہے ہم نے پھر پرسوں بتاریخ ۲۱ فروری کہ ابھی ہم لاہور ہی میں تھے
خواجہ صاحب کو ایک اور خط بشارت کی تصدیق کے بارے میں بھی
لکھ بھیجا +

ماں ۱۲ فروری کو جسدن ہنہ خواجہ صاحب کے متعلق فال دیجی تو یہ کیفیت
لاہور میں اپنے بعض دوستوں سے بھی بیان کی۔ انہوں نے فرمائش
کی کہ ہم شیخ اکبر کی اس کتاب کو ترجمہ اردو اور تہہیل مطالب سے آسان
اور عام فہم کر دینا تاکہ ہر شخص جو اردو پڑھ سکتا ہے اس سے مستفید و
مستفیض ہو سکے آج کہ ۲۳ فروری ۱۹۸۱ء ہے ہم یہ دیباچہ لکھ رہے تھے
کہ خواجہ صاحب کا دلہیا نے سے خط موصول ہوا جس کا اختصار بلفظ یہ ہے
کہ جناب کا نوازش نامہ قبل ازیں بھی موصول ہوا تھا اور میں نے اپنے
چند دستوں کو دکھلا بھی دیا تھا اس میں کچھ شک نہیں کہ نتیجہ چنانچہ
بإذن اللہ کے مطابق ہی برآمد ہوا۔“

شیخ اکبر نے اس قرعہ شریف میں مختلف اغراض کے لئے ۲۳ عنوان
قرار دئے ہیں اور ہر ایک غرض کے متعلق پانچ پانچ آیتیں لکھی ہیں۔ جن
کے ساتھ یہ بھی لکھ دیا ہے کہ یہ کام کرنا چاہئے یا نہیں یا یہ مقصد حاصل
ہوگا یا نہیں یا یہ کام اچھا ہے یا نہیں۔ اور یہ ہر ایک فال کا حاصل ہے
۔ فال نکالنے کا طریق جو کتاب کے

دیباچے میں بزبان عربی اور قوم فقہائے اسکوا ایسا وضع اور سہل اور سیر النہم
کر دیا ہے کہ کوئی شخص اردو میں کتنی ہی کم استعداد رکھتا ہو وہ بھی اس کو

سمجھ سکتے ہیں اور جو اس سے معلوم کرنا چاہے نہایت آسانی اور جلدی سے معلوم کر سکتے ہیں آخر میں ترجمے کے متعلق اتنی بات کہتی ضرور ہے کہ شیخ اکبر نے تمام آیات کا اسبق در حصہ لیا ہے جس سے ۳۲ حرف پورے ہو جاتے تھے کیونکہ انہوں نے ۲۴ حروف کا التزام کیا ہے اور باقی حصہ بلا لحاظ معنی چھوڑ دیا ہے ہم نے ترجمے میں ایسا نہیں کیا بلکہ آیات کے لکھے پچھلے الفاظ کے بھی معنی لکھ دئے ہیں تاکہ بات پوری سمجھ میں آجائے اور ان معانی کو خطوط قوسی میں محصور کر دیا ہے۔ مثلاً عنوان للمساخون چیٹی سر عیام یہی کے حرف ثانی کے متعلق یہ آیت لکھی ہے او علی سفر فعدۃ من ایام الحزمین اللہ بکم۔ یوید اللہ بکم کے معنی ہیں خدا تمہارے حق میں چاہتا ہے لیکن جب تک نہ بتایا جائے۔ کہ کیا چاہتا ہے۔ پوری بات سمجھ میں نہیں آتی اس لئے بنی الیسر کے معنی یعنی آسانی بھی اس کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ اصل میں ہے یوید اللہ بکم الیسر ہا سی آیت میں او علی سفر سے پہلے وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ سَابِغًا ہے۔ چنانچہ اس کا ترجمہ بھی لکھ دیا ہے مگر چونکہ اتنے الفاظ حصہ آیت مندرجہ ذیل سے زیادہ تھے اس لئے ان کے گرد خطوط ہلانی لکھ کر دوسرے الفاظ سے جدا کر دیا ہے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

فتح محمد خان

شہر جالندھر

۲۳ مارچ فروری ۱۹۱۸ء

۱۔ جدول قرعہ کی ہر پہلی سطر کے شروع میں وہ پانچ حروف درج ہیں جو ان آیات کے سرے پر آتے ہیں جو بطور فال اس قرعے سے نکلتی ہیں اور وہی آیتیں بہ تقریر تعداد حروف جدول کے صفحہ مقابل پر لکھی گئی ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ترجمہ دیباچہ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف المرسلين
سیدنا محمد وآلہ و اہلبیتہ اجمعین

واضح ہو کہ عظیم الشان اور کثیر المنفعت جدول ہو قرعہ لطیفہ پر مشتمل ہے
شیخ ابر اور استاد اعظم سیدی محی الدین بن عربی قدس اللہ سو
واقاض عینیا برہ نے قال نکالنے کے لئے مرتب کی ہی اور اس
میں آیات قرآنیہ درج فرمائی ہیں۔ قال نکالنے کا طریقہ یہ ہے
کہ تم اپنے دل میں کسی کام کی جو معلوم کرنا چاہو نیت کر لو۔ او
تین دفعہ سورہ اخلاص اور ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کے ثواب کا ہدیہ حضرت سرور کائنات صلی
اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بھیجو۔ پھر ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر اسکا ثواب مولف یعنی شیخ
اکبر کی روح کو پہنچاؤ اس کے بعد دونوں آنکھیں بند کر کے شہادت کی انگلی
اس صفحے کے کسی حرف پر رکھو جس سے قال نکالنی مقصود ہے اور اس حرف
کے بعد کے چار حرف چھوڑ کر پانچواں حرف لو۔ اسی طرح
اس جدول تک چار چار حرف چھوڑتے جاؤ اور پانچواں حرف لیتے جاؤ۔ پھر
شروع جدول سے یہی عمل کرو بہار تک کہ اسی حرف پر پہنچ جاؤ جس پر انگلی
رکھی تھی۔ لیکن جو حرف صفحے کے پچھلے حصے سے لئے گئے تھے وہ پیچھے لکھو اور جو

اس قرعے کے تیسس صفحے ہیں۔ اور ہر صفحے میں جو ایک ایک مقصد کیلئے مخصوص ہے۔ پانچ پانچ آیتیں ہیں جن کے تیسس تیسس حرف ہیں۔ اس حساب سے ہر صفحے میں آیتوں کے ایک سو ساٹھ حرف اور تمام صفحات میں ایک سو پندرہ آیتیں اور تیس ہزار چھ سو اسی حرف ہیں۔

قرعے اور اس کے استعمال کے بارے میں جو احادیث وارد ہیں حد شمار سے زیادہ ہیں وفسال الله التوفيق والبدایة لا قوم الطريق وبلوغ الامال بحاجه محمد واکال والله سبحانه وتعالى اعلم

(رقیہ حاشیہ صفحہ ۷۷) آیت پر انگلی رکھی تھی حرف ج پر انگلی رکھی اب تم کو وہ حرف لینا چاہئے جو ج کے نیچے کی جانب سیدیں سب سے آخری سطریں ہے۔ اور وہ لا ہے پھر جدول کی اوپر کی جانب یعنی سب سے پہلی سطر کی طرف رجوع کیا تو چار حرف چھوڑ کر پانچوں حرف آئے۔ اب پانچویں حرف کی آیت دیکھو تو یہی امل نزلان الفلک تجرعی فی البحر بنعمۃ اللہ ہے غرض یہ ہے کہ جب جدول کی سطر آخر کے حرفوں کے بعد سطر اول کے حرف شمار کرنے لگو تو پہلے پانچ حرفوں میں سے جو ساٹھ حرف پہلے شمار میں آئے اسکے مطابق آیت دیکھنی چاہئے۔ یعنی اگر پہلا حرف آئے تو پہلی آیت دیکھو۔ دوسرا آئے تو دوسری۔ تیسرا آئے تو تیسری۔ چوتھا آئے تو چوتھی۔ پانچواں آئے تو پانچویں یہی وہ مقصد یہ ہے جو ایک ایک حرف کے شمار کرنے اور پھر ان کو جمع کر کے آیت کے بنانے سے حاصل ہوتا ہے۔ مترجم عفا اللہ عنہ ✽

کلمہ بعض بعض مقامات میں ایسے الفاظ کا جو ماضی یا امر کے صیغوں کے آخر میں بطور رسم الخط لکھا جاتا ہے۔ اور جس کا معنوں سے کچھ تعلق نہیں۔ اعتبار نہیں کیا گیا۔ یعنی اسکو شمار نہیں کیا گیا۔ کیونکہ اسکے شمار میں لانے سے آیت کے حرف بڑھ جاتے تھے۔

پانچ جدول نمائے ۶ - ۱۵ - ۱۶ - ۲۵ میں بالترتیب - ۲ نون - ۱ ما کانونا - ۱ آمنوا - ۱ واستکبروا - ۱ میں اخیر کے الف نہیں لکھے گئے ✽ مترجم

تہ وعلمہ اکمل واتم - مترجم

هَذَا الْفِعْلُ طَيِّبٌ مَرْدِي

كلام اچھا ہے یا زبون

م	ا	ا	ا	ب	ه	و	و	ی
ر	ب	ت	ت	ر	د	ص	ن	ن
ا	ع	ع	ب	م	ج	ر	د	ه
ع	ی	م	و	ب	ل	ل	ر	ر
د	ا	ل	و	م	ن	م	ا	ه
ل	ق	ا	ث	ر	ا	ی	ی	ب
ه	ل	ه	و	م	ل	ل	ل	ح
ا	ن	ی	ف	م	و	و	د	ت
ل	ا	ل	ن	ه	ل	و	ا	ن
ب	ج	ی	ل	ر	ه	ه	ن	و
ی	ه	ث	م	و	ه	ر	ه	ن
ب	ه	و	ع	ن	ر	م	د	ا
ا	ر	ا	م	ج	م	ج	ا	و
ع	ب	ا	ل	ا	ی	ا	ن	ن
ل	ی	ب	م	ل	م	ا	ا	ن
ی	ا	ا	ر	م	و	ل	و	ه

شذروف	آیت	تیسرے
حرف اول پہلا حرف	يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَوَعْدَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ -	طیب اچھا
حرف ثانی	ان کا پروردگار انکو اپنی رحمت کی اور خوشنوی کی اور بہشتوں کی خوشخبری دے گا جس میں انکو ہمیشہ کا آرام ہے۔ وَأَنَّ لَّصَبْرًا وَوَأَوْتَقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ	طیب اچھا
دوسرا حرف	اور اگر تم صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو تو یہ بڑی بہت کے کام ہیں۔	
حرف ثالث	وَأَنَّ تَذْعُوبَهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا	ردی زبون
تیسرا حرف	اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے۔	
حرف رابع	وَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاجْهَدْ	ردی زبون
چوتھا حرف	اور جو باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو برداشت کرو۔ اور ان سے اچھی طرح سے منہ رکھو۔	
حرف خامس	هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ يَصِيرُ لِمَا يَشَاءُ	طیب اچھا
پانچواں حرف	ان کے لئے ان نولوں کے کئی درجے ہیں اور خدا ان کے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔	

هذا الخبر صحيح ام كذب

ی تبر سچی ہے یا جھوٹی

ا	ل	ن	ن	ق	ب	ذ	ا	ا
و	ذ	ل	ذ	ل	ل	ل	ا	ا
و	ی	ی	ل	ل	ب	ل	ذ	ا
ن	ب	م	و	ل	ذ	و	ن	ا
ق	ل	ل	ب	ل	ل	ا	ذ	ا
ق	ق	ق	ا	ا	ح	ح	و	ق
ب	م	م	ا	ر	ل	ف	ب	ل
ا	ج	ن	ا	ح	ل	ن	ی	ل
ا	ع	ن	و	ن	ا	ا	ق	ق
و	م	ن	ا	ا	ا	ا	م	م
ل	ا	ی	ن	ا	ف	ا	م	م
ا	ف	ل	ل	ل	م	ا	ا	ا
م	ا	ر	ر	ا	ی	ی	ا	ا
ل	ر	ا	ا	ا	م	ب	و	ل
ل	ر	ا	ن	ل	ع	م	ا	ا
م	ج	ا	ا	ا	ی	ب	ا	ل

نتیجہ	آیت	شمار حروف
<p>صمیم سچی</p>	<p>ان هذا هو القصص الحق و بہا حروف یہ تمام بیانات صمیم ہیں۔ اور غمہ کے</p>	<p>حرف اول</p>
<p>کذب جھوٹی</p>	<p>ان الذين كذبوا باياتنا و استكبروا عنها سدا کوئی معبود نہیں جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سر تابی کی دان کے لئے آسمان کے دروازے کو بند کیا</p>	<p>حرف ثانی دوسرا حرف</p>
<p>صمیم سچی</p>	<p>ذالك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربه مآباً یہ دن برحق ہے۔ تو جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانا بنالے۔</p>	<p>حرف ثالث تیسرا حرف</p>
<p>کذب جھوٹی</p>	<p>بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم رفی امور مسیح مگر جب انکے پاس دین حق آیا پہنچا تو انہوں نے اسکو جھوٹ سمجھا سو یہ ایک الجھی ہوئی بات میں جھوٹ ہے</p>	<p>حرف رابع چوتھا حرف</p>
<p>صمیم سچی</p>	<p>قالوا كذلك قال ربك ان الله هو الحكيم العالمیم انہوں نے کہا تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے بے شک وہ صاحب حکمت اور جزا دار ہے۔</p>	<p>حرف خامس پانچواں حرف</p>

الزمرع نافع املا

زراعت مفید ہوگی یا نہیں

ا	ا	ا	ا	م	و	ک	ل	ف	ک
ز	ا	ق	ر	ر	ر	و	ث	ح	ث
ا	ن	ب	ن	و	ق	م	ر	ج	ک
ل	م	ب	ب	م	ه	ث	ا	ا	ا
م	ه	ه	ن	ج	ه	ر	خ	ه	ن
ا	خ	ل	ا	ا	ن	ا	ا	ب	ن
ث	ا	ج	ک	و	ل	ا	ث	ث	ث
ر	م	ث	ی	ی	م	ث	ر	ل	م
ث	و	ث	ع	ن	ا	ر	ف	ی	و
ن	ث	و	ا	ز	م	ا	ک	ف	و
م	ح	ا	ر	و	ا	و	ن	ح	ر
م	ه	ن	ن	و	ن	ق	م	ج	ح
ه	و	ل	م	ق	ن	ی	ا	ا	م
ا	ح	ا	ه	م	م	ظ	ن	ن	ا
ل	ا	م	ظ	ر	ا	ل	ل	ح	ک
ه	ه	ن	ا	م	ل	ی	ر	ی	ی

تفسیر	آیت	سماں حروف
غیر نافع نامفید	<p>كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَابِ وَعِيُونَ ^{وَدُوعٍ}</p> <p>وَمَقَامِ كَرِيمٍ</p> <p>دو لوگ بہت سے باغ اور چھتے چھوڑ گئے۔ اور کھیتیاں اور قبریں مکان</p>	حرف اول پہلا حرف
نافع مفید	<p>فَاخْرَجْنَاهُ بِسَاتِ كُلِّ شَيْءٍ فَاخْرَجْنَا</p> <p>مِنْهُ خَضِرًا</p> <p>پھر ہم اس سے ہر طرح کی روئید گی اگاتے ہیں پھر اس میں سے سبز سبز کو نہیں نکالتے ہیں</p>	حرف ثانی دوسرا حرف
غیر نافع نامفید	<p>لَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونُوا مِنَ</p> <p>الظَّالِمِينَ</p> <p>اس درخت کے پاس نہ جانا نہیں تو تم ظالموں میں ز داخل ہو جاؤ گے</p>	حرف ثالث تیسرا حرف
نافع مفید	<p>كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ</p> <p>يَوْمَ حَصَادِهِ</p> <p>جب یہ پھیریں پھلیں تو ان کے پھل کھاؤ اور جب دن پھل توڑو اور جسے کھاؤ خدا کا حق بھی اس میں سے دو</p>	حرف رابع چوتھا حرف
نافع مفید	<p>وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ أَمَنَ</p> <p>رَبَّنَا بِمَنْ يَدْعُكَ بِاللَّهِ</p> <p>اور ان شہریوں سے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں ان کو میوؤں کا رزق عطا فرما</p>	حرف خامس پانچواں حرف

سفر البحر خیرام لا

تری کا سفر مفید ہوگا یا نہیں

و	ظ	خ	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا
ذ	ر	ذ	ن	م	ا	ا	ا	ا	ا
ع	ع	ل	ر	ر	ر	ش	ف	ا	ا
ی	س	ب	ع	ن	ا	ا	و	ر	ا
م	د	ا	ق	ل	م	ف	ف	ا	ف
و	ی	ی	م	ل	ج	ا	ا	ف	ا
ع	ل	ل	ل	ت	ا	ب	ا	ا	ج
ل	ل	ر	ل	ر	ظ	و	ا	ر	ی
ل	ا	د	ی	ف	ل	ل	ل	ل	ی
د	د	ب	و	ل	ا	ع	ا	ا	ل
و	ر	ا	ا	م	ب	ب	ل	و	ل
ا	م	ل	ل	ل	ر	ل	ا	ا	ب
ل	ا	ا	م	ا	ا	ا	ا	ا	ا
ل	م	ب	ل	ی	م	ا	ا	ا	ا
ل	ا	ا	ی	ا	ا	ی	ا	ا	ا
ی	د	ل	ل	و	ل	ا	ا	ا	ا

شمار حروف	آیت	تیسرے
حرف اول پہلا حرف	رَاٰذًا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظَّلْمِ دَعَوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ	غیر نافع نامفید
حرف ثانی دوسرا حرف	ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْهِمْ	غیر نافع نامفید
حرف ثالث تیسرا حرف	فَاِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكَ دَعَوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُمْ	نافع باذن اللہ خدا کے حکم سے مفید ہوگا
حرف رابع چوتھا حرف	اِنْ نَّشَا الْغَرْفَتُمْ فَلَا صَرْحَ لَكُمْ وَلَا هُمْ يَنْقُذُوْنَ	غیر نافع نامفید
حرف خامس پانچواں حرف	الْمَ تَرَانِ الْفُلِكَ مَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ	نافع باذن اللہ خدا کے حکم سے مفید ہوگا

اور جب ان پر دریا کی لہریں سے سناہانوں کی طرح
چھا جاتی ہیں تو خدا کو پکارتے ہیں اور ان خالص سبک عبادت کرنے لگتے
ظہور الفساد فی البر و البحر بما کسبت
ایندیہم
بیابان اور دریا میں لوگوں کے اعمال کے سبب
فساد پھیل گیا ہے

پھر جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خدا کو پکارتے
میں (اور) خالص سبک عبادت کرنے لگتے ہیں
اگر تم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں پھر تو ان کا کوئی فریاد
ہو اور نہ انکو رہائی ملے۔

کہا کرتے نہیں دیکھا کہ خدا کی مہربانی سے کشتیاں دریا
میں پہنچتی ہیں۔

سفر البرنا فاع ام لا

خفتی کا سفر سفید ہوگا یا نہیں

و	و	و	و	و	و	و	و	و	و
ح	ض	ا	د	س	م	ل	ت	ا	و
ل	ا	ص	ا	ر	ا	ل	ع	ا	و
ش	ل	ر	ل	ا	ق	ا	ح	ی	ف
ا	ا	د	ا	ی	ل	ل	ل	ل	ا
ک	م	ل	ط	ل	م	ل	ج	ل	ی
ا	ا	ن	ن	ب	ر	ل	ا	ا	م
ی	د	س	ن	ف	ب	ی	و	ا	ا
ل	ن	ل	ل	ن	د	ع	ا	ق	ظ
ل	ل	ل	ت	و	ر	م	ی	م	ل
ت	ا	س	و	ا	ک	ل	ف	ا	ک
و	ق	ی	د	ی	ن	ا	ا	ا	و
و	ع	ل	ا	ب	ا	د	ا	ا	د
ی	ی	ر	ل	ا	ا	ن	ض	ی	ا
ل	ا	م	ص	ل	ع	ج	ر	ر	خ
ی	ر	ح	ا	ل	ا	ا	ا	ا	ہ

نتیجہ	آیت	نماہر حروف
<p>نافع باذن اللہ خدا کے حکم سے مفید ہوگا</p>	<p>وَحَسْبُنَا أَنْفَا لَكُمْ إِلَىٰ بَدَلٍ لَمْ تَقُولُوا بِالْغَيْهِ -</p>	<p>حرف اول پہلا حرف</p>
<p>نافع باذن اللہ خدا کے حکم سے مفید ہوگا</p>	<p>اور دو دروازے شہروں میں جہاں تم (جنت) شاد و کثیر پہنچ نہیں سکتے وہ تمہارے بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا</p>	<p>حرف ثانی دوسرا حرف</p>
<p>غیر نافع مفید نہیں ہے</p>	<p>اور اجر عظیم کے لحاظ سے خدا نے جہاد کرنے والوں کو بیش سے دنوں پر کہیں فضیلت بخشی ہے وَأَلَّا تَصْغُرَ حَدَاكُ لِلنَّاسِ وَلَا تَمُوتَ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا</p>	<p>حرف ثالث تیسرا حرف</p>
<p>نافع باذن اللہ خدا کے حکم سے مفید ہوگا</p>	<p>اگرہ کر چینا۔ وَهْدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهْدُوا إِلَى حِرَاطٍ</p>	<p>حرف رابع چوتھا حرف</p>
<p>نافع مفید ہوگا</p>	<p>اور انکو پاکیزہ کلام کی ہدایت کی گئی۔ ورنہ خدا نے ہمیں راہ بتائی تھی ثَلَاثَ سَبْعِينَ وَآيَاتٍ الْأَرْضِ فَاَنْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ</p>	<p>حرف خامس پانچواں حرف</p>
	<p>آہو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ہے اور پھر فرمادے گا۔</p>	

سفر الحج مناسب ام لا
 حج کیلئے سفر مناسب ہے یا نہیں

و	و	و	و	و	و	و	و
ن	ذ	ح	ح	ع	ع	ع	ع
ی	ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن
ح	و	ن	ن	ن	ن	ن	ن
ج	ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن
ف	ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن
ن	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
ج	م	و	ن	ن	ن	ن	ن
ک	ل	ل	ل	ل	ل	ل	ل
ط	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا
ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا
م	ل	ل	ل	ل	ل	ل	ل
ج	ث	س	س	س	س	س	س
ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا
ح	س	ع	ع	ع	ع	ع	ع
ا	و	ح	ح	ح	ح	ح	ح

نتیجہ	آیت	شمار حروف
مناسب مناسب ہے	وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ	حرف اول پہلا حرف
لا مناسب نہیں	اور تم جہاں سے نکلو (نمازیں) اپنا منہ مسجد محترم کی طرف کر لیا کر وَلَا تَلْقُوا يَأْيِدِكُمُ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَاحْسِنُوا	حرف ثانی دوسرا حرف
مناسب مناسب ہے	وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ	حرف ثالث تیسرا حرف
مناسب مناسب ہے	اور حج اکر کے دن خدا اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو نکل آگاہ کر دیا جاتا ہے وَلِيُحْصِرَنَّ اللَّهُ مَن يَمُكِّرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ	حرف دایع چوتھا حرف
لا مناسب نہیں	اور خدا اس شخص کی ضرور مدد کرتا ہے جو خدا کی مدد کرتا ہے بیشک خدا تو اتنا اور غالب ہے۔ يَدْعُو الْمَنَافِرَةَ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَيْسَ الْمَوْلَى	حرف خاص پانچواں حرف
	یہ ایسے شخص کو پکارتا ہے جس کا نقصان فائدے سے تریب ہے بیشک ایسا دوست برا ہے۔	

شمار حروف	آیت	نتیجہ
حرف اول پہلا حرف	وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفِينَ بِإِذْنِ اللَّهِ	حرب لڑائی
حرف ثانی دوسرا حرف	وَأَهْلِيهِمْ أَزْوَاجٌ بَيْنَكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ	صلح صلح
حرف ثالث تیسرا حرف	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حُرُوسًا عَلَىٰ أَمَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَكُونُونَ رَاغِبِينَ	حرب لڑائی
حرف رابع چوتھا حرف	قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تَخَالَفُوا فَقَاتِلُوهُمْ فَانصُرُوا اللَّهَ	صلح صلح
حرف خامس پانچواں حرف	إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَالْجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ	حرب لڑائی

اور اگر تم میں ایک ہزار غزوات قدم پہننے والے ہوں گے تو خدا کے حکم سے دویزار پر غالب ہو گے

اور آپس میں صلح رکھو اور خدا اور اسکے رسول کے حکم

پر چلو۔

اے نبی مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو

کہہ دو کہ انکی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے اور اگر تم ان سے مل کر رہنا چاہو تو تمہارے

بھائی ہیں

تم سب کیا ہو یا اگر ان ہمارا یعنی مال اسباب متعطل رکھتے ہو یا ہتھیاروں سے نکل کر انکی خدا کے راستے میں (ال راوجان) سے لڑو

الشهادة في هذا الامر خير ام لا

اس معاذے میں گواہی دینی اچھی ہے یا نہیں

ا	ا	ا	ا	ع	و	و	ل
م	س	ی	ا	ت	ر	ف	ا
ل	ن	ا	ت	ا	ب	ب	ل
ی	ا	ل	و	ع	ا	ل	م
و	ل	س	ا	ب	ل	س	ا
ل	ا	ی	ب	ا	ن	س	ل
ا	ر	ا	ا	س	س	د	م
د	و	ح	ن	ا	س	م	د
و	ا	د	م	ا	ل	ن	و
و	ل	س	ل	ا	و	ر	ن
ل	ی	ل	ا	ا	و	ی	ل
ل	ا	ل	ا	ح	ا	م	ل
م	ل	ا	ل	ی	ل	ز	ا
ل	س	ا	ب	ا	ا	و	ا
ب	ی	ذ	ل	ا	ا	ل	ا
ر	ا	ن	ا	م	ی	م	ا

شمار حروف	آیت
حرف اول پہا حرف	<p>وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَشْرٌ قَلْبًا</p> <p>اور شہادت کو مت چھپانا جو اسکو چھپا لگا وہ دل کا گنہگار ہوگا</p>
حرف ثانی دوسرا حرف	<p>لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ لِجَعْلِهِ</p> <p>لیکن خدا نے جو کتاب تم پر نازل کی ہے اسکی نسبت فرما کر دیتا ہے کہ اُس نے اپنے علم سے نازل کی ہے</p>
حرف ثالث تیسرا حرف	<p>وَكُفَىٰ بِاللَّهِ شَرِيحًا مُحَمَّدًا رَسُولًا اللَّهُ وَالَّذِينَ</p> <p>اور خدا ہی گواہ کافی ہے۔ محمد خدا کے پیغمبر ہیں۔ اور جو لوگ انکے ساتھ ہیں کافروں کے حق میں سخت ہیں</p>
حرف رابع چوتھا حرف	<p>وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَرِيحًا</p> <p>اور ہم نے تمکو لوگوں کے لیے بھیجا ہے اور اس بات کا خدا ہی گواہ کافی ہے۔</p>
حرف خمس پانچواں حرف	<p>عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَلِيمُ الْحَكِيمُ</p> <p>دوستی، پوشیدہ اور ظاہر کا جانتے والا (ہے) اور دوستی والا اور خبردار ہے</p>

عقد النکاح خیراملا

نکاح کرنا اچھا ہوگا
یا نہیں -

ف	ی	ز	و	و	ا	س	ی	ل	ل
ع	ث	ن	ا	ا	ت	ف	ل	ج	ث
ز	ث	ل	ن	ع	ل	و	ن	ا	ز
و	ن	ا	ح	م	ا	ک	س	ع	و
ا	ف	ا	ح	ل	ل	ی	ب	ی	ع
ن	ا	ا	ک	ف	ل	ل	ل	م	د
ا	ن	ا	ش	ا	ت	ع	س	ہ	ا
ف	ا	ا	و	ت	ل	ی	ع	ا	ن
ا	ق	ا	ث	ک	ل	ل	م	ح	ا
م	ا	ن	و	ح	ل	ل	ا	ہ	ح
ی	ل	ل	ن	ث	ل	م	ن	ا	ی
و	ی	س	ذ	ی	ل	ف	ا	ا	ی
ا	ت	ع	ا	ل	ث	ی	و	ث	ی
ق	ک	ا	ی	ا	ر	م	ل	ث	س
ب	ف	ب	م	ک	و	ی	ن	و	ث
ہ	ہ	ی	ہ	ا	ن	ن	ن	ن	ب

نتیجہ	آیت	شمار حروف
غیر نافع اچھا نہیں ہوگا	فَاعْتَرِزُوا النِّسَاءَ فِي الْحَيْضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش ہو۔ اور جب تک پاک ہو جائیں، اُنکے پاس نہ جاؤ	حرف اول پہلا حرف
نافع بلقہ اللہ خدا کے حکم سے اچھا ہوگا	يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ اے پیغمبر لوگو تمہیں عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب ہے کہ جو کہ خدا تمکو ایسے مسائل سے اجازت دیتا ہے	حرف ثانی دوسرا حرف
نافع باذن اللہ خدا کے حکم سے اچھا ہوگا	رَبِّنَ لِلنِّسَاءِ حُجُبٌ مِّنَ السَّمٰوٰتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ لوگوں کو اپنی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے بہت	حرف ثالث تیسرا حرف
نافع باذن اللہ خدا کے حکم سے اچھا ہوگا	وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَتَّكِفُوْهُنَّ اِذَا اَتَيْتُمُوهُنَّ اور پھر کچھ گناہ نہیں کہ اُن عورتوں کو دہریہ دے کر	حرف اربع چوتھا حرف
غیر نافع اچھا نہیں ہوگا	وَلَا تَعْرَمُوْا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اُن سے نکاح کر لو اور جب تک خدا کا حکم اپنی ریت کو نہ پہنچ جائے (یعنی قرآن پوری نہ ہو لے) عقد نکاح نہ کرنا	حرف خامس پانچواں حرف

هل تحفظ الامانة ام لا
آيا امانت محفوظ رهبريگي يا نهين

ن	م	ل	ا	م	ا	و	ف	و	ن
ا	ا	ا	ا	ر	ا	ن	م	خ	ا
ن	ل	ل	ا	ه	م	ه	ك	ف	ا
ب	ل	ه	ي	ن	ه	ا	م	ن	ل
ي	ا	ا	ك	و	د	ك	ق	ا	ا
ا	ب	ا	ه	ح	ن	ا	ل	ل	ن
ل	ن	ك	ل	ظ	م	م	ا	ن	ف
ي	ن	ل	ي	خ	ا	ا	ا	ذ	ا
ه	ه	و	ب	ن	و	ا	ي	ه	ا
ه	ن	ل	ا	و	د	م	م	و	ا
ل	ب	ي	ا	ز	ا	ه	د	ن	ن
ا	ن	ا	ع	ا	ي	ق	ن	م	د
ل	ا	ا	ه	ك	ا	ط	م	ن	ر
م	ي	ن	ا	ل	ا	ر	ي	ع	ي
د	ه	م	ل	ع	ا	و	ا	ف	ب
ت	ه	ن	ن	ر	م	د	ي	و	ي

نتیجہ	آیت	شمار حروف
تخفظ محفوظ رہیگی	نَمِيں اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا وَنَزِدَادُ كَيْلَ بَعِيں	حرف اول، پہلا حرف
لا تخفظ محفوظ نہیں رہیگی	ہم اپنے گھر کیلئے غلہ لائینگے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے اور ایک بار شتر زیادہ لائیں گے وَ اَخَافُ اِنْ يَأْكُلَ الذَّيْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ عَافِلُونَ	حرف ثانی، دوسرا حرف
تخفظ محفوظ رہیگی	اور تمہیں ترنگ نہ ہو فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ كَذِبًا مَكِينٌ اٰمِنٌ	حرف ثالث، تیسرا حرف
تخفظ محفوظ رہیگی	صاحب کتنا امانت ہو وَمِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ اِنْ تَاْمَنُوْهُ بِقَنْطَرٍ لَّيُوْدِيْهِ	حرف رابع، چوتھا حرف
لا تخفظ محفوظ نہیں رہیگی	اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس (روٹیوں کا) ڈھیر امانت رکھو تو اسے دیکھ کر اِنْ تَاْمَنُوْهُ بَدِيْنًا لَّيُوْدِيْهِ اِلَيْكَ رَاٰ مَا دُمْتُ	حرف خامس، حرف پانچواں

شعار و حرف	آیت	تفسیر
<p>حرف اول پہلا حرف</p>	<p>لَر الْمَلِكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ</p> <p>یہ کیا بادشاہت ہے اور جن لوگوں کو تم اسکے سوا پکارتے ہو وہ کسی چیز کے بھی مالک نہیں</p>	<p>لا یحصل المراد مراد حاصل نہیں ہوگی</p>
<p>حرف ثانی دوسرا حرف</p>	<p>قَالَ لَهُمَّ مَا لَكِ الْمَلِكُ تَوَدُّونِي الْمَلِكُ مَنْ تَشَاءُ</p> <p>کہو کہ ایخرا کے بادشاہی کے مالک تو جو چکو چاہے</p>	<p>لا یحصل المراد بآذن خدا کے حکم سے مراد حاصل ہوگی</p>
<p>حرف ثالث تیسرا حرف</p>	<p>وَيُخَلِّفُ فِيكُمْ مَنِ تَشَاءُ</p> <p>بادشاہی بخشنے اور میرا پورا دارگاہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لالہ بنائے گا اور تم خدا کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے</p>	<p>لا یحصل مراد حاصل نہیں ہوگی</p>
<p>حرف رابع چوتھا حرف</p>	<p>يَا دَاؤُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ</p> <p>اے داؤد بخشنے تم کو زمین میں بادشاہ بنا دیا ہے تو لوگوں میں انصاف سے حکومت کرو۔</p>	<p>لا یحصل المراد بآذن خدا کے حکم سے مراد حاصل ہوگی</p>
<p>حرف خامس پانچواں حرف</p>	<p>ذِي الْقُرْبَىٰ</p> <p>خدا (انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو رنج سے مدد دینے کا حکم دیتا ہے</p>	<p>لا یحصل المراد مراد حاصل ہوگی</p>

هل يبيع ويشترى ام لا

آيا خريد و فروخت كرت يا نهيس

ق	ف	ا	ا	ف	د	ك	ل	ن	ذ
ل	ل	م	ا	س	و	ه	ا	ق	ق
ر	ا	ي	ن	ت	و	م	ب	ط	و
ا	م	س	ع	ب	ا	ا	ط	م	ا
ن	ن	ا	ك	ل	ف	ن	ل	م	ا
م	م	ر	ل	م	ه	ت	ز	و	ر
م	م	م	ن	ه	و	ل	ل	ه	ا
م	ل	م	ا	و	ل	ا	ن	ل	ا
م	ل	ي	ل	ا	ن	ا	ش	ه	ن
ه	ط	ا	ل	ع	م	ي	ع	ا	ا
م	ب	م	ن	ق	ا	ا	ن	ر	ب
ط	و	ع	ي	ت	ا	ا	ب	د	ا
ن	ن	ا	م	م	و	ق	د	ن	ر
و	و	ه	ك	ه	ف	ا	و	م	ا
ن	ا	ي	ج	ل	ر	ل	ق	ر	ي
ل	ل	د	ا	ر	ن	ه	ر	ع	ا

نتیجہ	آیت	ظہر حرف
غیر نافع مفید نہیں ہوگا	<p>قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ</p> <p>بے شک ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا اور جو کچھ انہوں نے کیا کرتے تھے ان سے سب جاتا رہا</p>	<p>حرف اول پہلا حرف</p>
نافع باذن اللہ خدا کے حکم سے مفید ہوگا	<p>فَكُلُوا مِنَّا عَمَتَّمْ حَلَالًا طَيِّبًا الْقَوْلُ لِلَّهِ</p> <p>تو جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اُسے کھاؤ اور وہ تمہارے لئے حلال طیب ہے اور خدا سے دہرتے رہو</p>	<p>حرف ثانی دوسرا حرف</p>
نافع باذن اللہ خدا کے حکم سے مفید ہوگا	<p>مِنْ عِبَادَةٍ وَبِقَدَرٍ</p> <p>خدا پسندیدوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے فراخ کردیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے</p>	<p>حرف ثالث تیسرا حرف</p>
نافع باذن اللہ خدا کے حکم سے مفید ہوگا	<p>إِن سَأَلْتُمُوهُ لَوَجَّهَ إِلَيْهِ لَا تَرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً</p> <p>ہم تمہیں خالص خدا کیلئے کھلاتے ہیں تم سے عوض کے خواہنے کا نہیں ہیں دینے کے لئے کسی چیز کی طلب نہیں</p>	<p>حرف رابع چوتھا حرف</p>
غیر نافع مفید نہیں ہوگا	<p>قَدْ أَقْتَدُوا بِأَلْ أَمْرِهِمْ وَأَنْ كَانَ عَاقِبَتُهُ أَمْراً حَسْباً</p> <p>سو انہوں نے اپنے کاموں کے انجام کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام نقصان دہی تھا</p>	<p>حرف خامس پانچواں حرف</p>

المحبوس يتخلص ام لا
 حكي نسبت قید کا حکم ہوا ہے وہ رہائی پا چکا یا نہیں

ا	ف	ل	ف	ل	ذ	ا	ح	ل	ق
ا	س	ع	م	د	ل	ث	ن	ا	ن
ا	ج	ا	ج	ج	ع	ب	ن	ا	ی
ل	ن	ج	ع	ن	ا	ا	ی	ا	ا
ل	ل	ن	م	ب	ا	ہ	ن	ر	ن
ک	و	ا	ن	ی	ا	ن	م	ا	ا
ع	ج	ن	ن	ن	ی	ہ	ہ	ج	ر
ا	ن	ن	ی	ا	ی	ا	ہ	ن	ع
ہ	م	ل	ا	ی	م	م	ن	م	ن
و	ن	ا	ا	م	ا	ا	و	ل	ن
ل	ل	ع	و	ا	س	و	ن	ا	ن
ل	م	م	و	ح	ا	ا	ن	ا	ن
ی	ہ	ا	ا	ل	ا	ل	ل	ن	ا
ی	ل	س	ی	ا	س	ا	ا	ع	ل
ل	ن	ا	م	م	ب	ن	ر	م	ہ
و	ج	ی	ن	ی	ن	ی	ن	و	ن

نتیجہ	آیت	ظہر حروف
لا یخلص رہائی نہیں پائیگا	<p>رَادِ الْأَعْدَالِ فِي أَعْدَائِهِمْ وَالْكَاسِرِ يُسْحَبُونَ</p>	<p>حرف اول پہلا حرف</p>
یخلص رہائی پائیگا	<p>جب کہ ان کو توئی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ڈالی جائیں اور کھینچے جائیں گے فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَجَجَبْنَا لَهُ مِنَ الْعَذَابِ كَذَلِكَ نَجْجِي</p>	<p>حرف ثانی دوسرا حرف</p>
یخلص یا ذن اللہ خدا کے حکم سے رہائی پائیگا	<p>تو ہم نے اسکی دعا قبول کر لی اور انکو عذاب سے نجات بخشی اور وہاں بعد الوتکو بہم اسی طرح نجات دیتے ہیں لَئِنْ أُجِيتْنَا مِنْ هُنَا وَ لَسَا كُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ</p>	<p>حرف ثالث تیسرا حرف</p>
یخلص یا ذن اللہ خدا کے حکم سے رہائی پائے گا	<p>بہت ہی شکر گزار ہوں گے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا كَمَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا</p>	<p>حرف رابع چوتھا حرف</p>
یخلص رہائی پائے گا	<p>ایمان لائے تھے بچا لیا لَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُجْرِمِينَ</p>	<p>حرف خامس پانچواں حرف</p>

ہے بنی اسرائیل کو دولت کے ہذاب سے نجات دی

هذه المرأة تتزوج ام لا

یہ عورت زوجیت میں آ رہی یا نہیں

و	و	و	و	و	و	و	و	و	و
تا	ز	ل	ر	م	ق	و	ن	ن	ف
ی	ا	س	ف	ی	ت	ج	ا	ی	ہ
ا	م	ع	ب	ا	ل	ط	ن	ی	ا
ل	ہ	م	و	ز	ہ	س	ی	ت	و
ا	ت	ا	ا	ا	ن	و	م	ن	ج
ا	ر	م	و	م	ل	ف	ا	ل	ط
ل	و	ا	ا	ہ	ہ	ا	ا	ت	ر
ک	ن	ت	ب	ت	ا	م	س	ر	و
ن	ن	ن	ب	ج	ن	ع	ا	ن	د
ل	ل	و	ت	خ	ی	ل	ا	ب	ل
ک	ہ	س	ر	ہ	ل	و	ی	ج	م
ی	ا	ع	ا	ظ	ی	ل	ل	ل	ل
ہ	ل	و	ج	ا	ی	ن	ہ	ا	ظ
ہ	ب	ا	ہ	ل	ی	ی	ل	ل	ی
ی	ل	ی	ل	ل	ا	ا	ہ	ت	ا

تجوید	آیت	شمار حروف
تتزوج زوجیت میں آئیگی	<p>وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ كَانُوا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدِينَ</p> <p>اور اے عورتوں کے خدا سے ڈرتی رہو۔ کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔</p>	حرف اول پہلا حرف
تتزوج زوجیت میں آئیگی	<p>وَأَزْوَاجًا مَّطَهَّرَةً وَرُفُوعًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَبَدِيدٌ</p> <p>اور پاکیزہ عورتیں اور خدا کی خوشنودی اور خدا اپنے</p>	حرف ثانی دوسرا حرف
تتزوج زوجیت میں آئیگی	<p>وَاللِّبَاسِ وَالصِّبْيِ وَمَا كُنْتُمْ بِمُعْذِرِينَ</p> <p>اور عورتوں کے لئے ان کاموں کا حصہ ہے جو انھوں نے کئے۔ اور خدا سے اس کا فضل مانگتے رہو۔</p>	حرف ثالث تیسرا حرف
لاتتزوج زوجیت میں نہیں آئیگی	<p>وَأَقْرَبِينَ</p> <p>اور (اپنے عورتوں) اپنے گھروں میں بھری رہو اور سب طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں انھار شعل کرتی تھیں اس طرح زمین کی</p>	حرف رابع چوتھا حرف
تتزوج زوجیت میں آئیگی	<p>لَهُمْ فِيهَا زَوْجٌ مَّطَهَّرَةٌ وَتُدْخِلُهُمْ طَلًا ظَلِيلًا</p> <p>وہاں آئے گئے لئے پاک بیویاں ہیں۔ اور ان کو ہم گھنے بنائے میں داخل کریں گے۔</p>	حرف خامس پانچواں حرف

شماره حرف	آیت	نتیجہ
حرف اول پہلا حرف	<p>وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ</p> <p>اور (موسے) ایسے وقت میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر ہوئے تھے (چھوڑ گیا کہ وہاں دو شخص لڑ رہے ہیں۔)</p>	<p>یجیی سر یعا جلد آئے گا</p>
حرف ثانی دوسرا حرف	<p>أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُؤْتِنُ اللَّهُ لِكُلِّ</p> <p>اور جو چاہے (موسے) کو سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کرے۔ خدا تمہارے حق میں (آسانی) چاہتا ہے</p>	<p>بیطی دیر میں آئیگا</p>
حرف ثالث تیسرا حرف	<p>وَجَاءَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْتَعِي قَالَ يَا قَوْمِ</p> <p>اور شہر کے پورے لوگوں سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا کہ میری قوم (پہنچنے والوں کے پیچھے چلو۔)</p>	<p>یجیی سر یعا جلد آئے گا</p>
حرف رابع چوتھا حرف	<p>وَلَا تَبْتَئِسُوا مِنْ دَعْوِ اللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ بَدِيعٌ مِّنْ مِّنْكُمْ</p> <p>اور خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہونا کہ خدا کی رحمت سے ناامید نہیں ہو سکتا (کہ وہ جو بے ایمان ہے)</p>	<p>یبدی دیر میں آئیگا</p>
حرف خامس پانچواں حرف	<p>وَأَنذَرْنَاكُمْ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الَّذِي مِنْ وَرَقِ بَنِي إِسْرَائِيلَ</p> <p>اور ہم نے تم کو طور کی دامنہ طرف سے پکارا اور</p> <p>نزدیک بلایا</p>	<p>یجیی سر یعا جلد آئے گا</p>

عاقبة هذا الامر خیر ام لا

اس: تکام کا انجام اچھا ہوگا یا نہیں

ل	و	و	ق	ق	ل	ہ	ہ	ر	ا
م	د	ز	ل	ا	ا	و	ق	و	و
ل	ا	ن	ا	ر	ب	ا	ا	ب	ب
ا	ش	ل	ہ	س	د	ر	ی	م	ر
و	ی	ا	م	ن	ا	ف	ل	ن	ا
ا	ی	ط	ا	ل	ن	ا	ی	ل	ب
ی	ل	ب	ط	ا	ح	ح	م	ی	ل
ر	ی	ن	ب	ح	ا	ا	ا	ا	ق
و	ق	ل	ت	ا	ا	ا	ق	و	ل
م	ل	و	ف	ا	ن	د	ل	ظ	ن
ہ	ن	و	ل	ل	ا	ی	ہ	ن	ن
م	ا	د	ا	م	ن	و	و	ہ	ن
غ	ف	ا	م	ا	م	ی	ا	ل	ل
ا	ا	ل	ل	ق	ع	ل	ی	ی	ا
ی	آ	ص	ل	ن	د	ل	ر	ش	ط
و	ر	ا	ی	ی	ا	ن	ط	ر	ن

شمارحروف	آیت	نتیجہ
حرف اول پہلا حرف	كَلِمًا اَرَادُوا اَنْ يَّخْرِجُوْا مِنْهَا مِنْ عَلَمٍ اَعِيْدُ وَا	لاخیر فیہ اچھا نہیں ہوگا
حرف ثانی دوسرا حرف	لَهُمْ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاٰخِرَةِ	خیر فیہ اچھا ہوگا
حرف ثالث تیسرا حرف	وَهْدًا وَاِلَى الْغَيْبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهْدًا وَاِلَى طَرَاظِ	خیر فیہ اچھا ہوگا
حرف رابع چوتھا حرف	وَرَزَقْنَا مِنْهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَضْلًا هَلُمَّ عَلَى كَثِيْرٍ	خیر فیہ اچھا ہوگا
حرف خامس پانچواں حرف	قَالُوْا اَبَشْرًا لَّا يَلْحَقُ فَا تَلْكُنَّ مِنَ الْقَانِطِيْنَ	خیر فیہ اچھا ہوگا

جذبہ دیا ہیں گے کہ اس بیج (و کیف کی وجہ سے) دوزخ سے نکل جائیں تو پھر راسکی میں، لوٹا گئے جائیں گے

ان کے لئے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی

اور ان کو پاکیزہ کلام کی ہدایت کی گئی اور (خدا سے) حمد کی راہ بتائی گئی

سنجھ انکو پاکیزہ روزی عطا فرمائی اور نسبت شخصوں پر

جو پیچھے پیدا گئے، فضیلت بخشی

انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں۔ آپ باایس نہ ہو جیے۔

شہد عروف	آیت	نتیجہ
حرف اول پہلا حرف	لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَلْيَوْمَ حُنَيْنٍ فلانے بہت سے موقعوں پر تمکو مدد دی ہے اور حنین کی لڑائی کے دن۔	غالب غالب
حرف ثانی دوسرا حرف	لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَلْيَوْمَ حُنَيْنٍ بِإِذْنِ اللَّهِ ایسا اوقات ٹھوڑی سی جماعت نے خدا کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی	غالب غالب
حرف ثالث تیسرا حرف	وَمَا التَّضَلُّ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اور وہ گمراہی کی ہے۔ اور جو غالب اور حکمت والا ہے	غالب غالب
حرف رابع چوتھا حرف	فَمَا اسْتَخَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَظِرِينَ پھر وہ تو اسٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ بدلا سکتے تھے	مغلوب مغلوب
حرف خامس پانچواں حرف	وَيَزِدْكُمْ مَقَوِّمًا إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ اور تمہیں زور پر زور (یعنی بہت قوت) دے گا اور گنہگار بن کر دوڑانی نہ کرو۔	غالب غالب

تعداد حروف	آیت	نتیجہ
حرف اول پہلا حرف	وَلَا يَجِدُ وَا لَّهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا تَوَكُّلًا خدا کے سوا کسی کو ماننا دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔	لا نہیں
حرف ثانی دوسرا حرف	قَالُوا ابْنُ نَارٍ بِالْحَقِّ فَلَئِنْ مَرَّ بِالْقَابِطِينَ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں تو آپ بالیوس نہ ہو جائے	حاملہ حمل سے ہے
حرف ثالث تیسرا حرف	الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر اسکو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور یہ اسے بہت آسان ہے	حاملہ حمل سے ہے
حرف رابع چوتھا حرف	فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَسَّانَاهُ خَلْقًا أَخَذَ پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ پھر اسکوئی صورت پہنچا دیا	حاملہ حمل سے ہے
حرف خامس پانچواں حرف	فَأَهْبَطْنَا وَعْدَ اللَّهِ حَسْبٌ أَسْتَعْزِمُ لِيذْنِكَ وَسَجَّ تو ہم سرور خدا کا وعدہ سچا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اپنے پروردگار کی عطا کردہ نیک نیتی سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔	لا نہیں

نتیجہ	آیت	شمار حروف
ذکر لڑکا	إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بَيْتِيٍّ مُّصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ خدا تمہیں بچی کی بشارت دیتا ہے جو خدا کے فیض پر عین عملی تصدیق کریں گے۔	حرف اول پہلا حرف
انٹے لڑکی	إِنِّي سَمِعْتُهُ سَمِعْتُمْ لِي وَأُخْبِرُهُ بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ میں نے اسکا نام مریم رکھا ہے۔ اور میں اسکو اور اسکی اولاد کو (شیطان مردود سے) مخفی بنا دیتی ہوں۔	حرف ثانی دوسرا حرف
ذکر لڑکا	ذِكْرُ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَكَلَّمْنَا رَبَّنَا حَلِيمًا مے پروردگار مجھ (اولاد) عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو تو ہم ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی	حرف ثالث تیسرا حرف
انٹے لڑکی	وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا كَالَّذِينَ اور جو کچھ اُنکے مان پیدا ہوا تھا خدا کو خوب معلوم تھا اور وہ کافر لڑکی کی طرح دانا تو اس (انہیں) نہیں ہوتا۔	حرف رابع چوتھا حرف
ذکر لڑکا	بَشِّرْنَا بِمَا سَأَلْنَا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارِكْنَا مجھے اُن کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ بچی (ہوئے) نیک کاروں میں اور برکت دی	حرف خامس پانچواں حرف

تعبیر المنام خیرام لا

خواب کی تعبیر اچھی ہے یا نہیں

ی	و	و	ہ	ر	ا	م	ی	ذ	ب
ب	ا	ث	ا	ق	ن	ج	م	ث	ل
ی	ع	ن	ا	ل	ل	ع	و	ث	ا
ا	ن	م	ی	ی	ا	ث	و	ث	ی
ق	ا	ہ	ر	ن	ع	و	ی	ی	ن
ع	ر	ل	ع	م	ر	ی	و	ی	ل
و	ع	ا	ا	ا	ع	ی	و	ی	ل
ی	ا	م	م	م	ا	ا	ل	ل	ل
ا	ل	ی	ق	ا	ع	ث	ا	و	ل
ل	ی	ل	ل	ع	ی	ا	ی	ل	ل
ا	ر	ع	د	م	ل	ی	ج	ا	ل
و	ن	و	ح	ن	ن	ا	ب	ل	ی
ا	ا	ا	ا	م	ا	ا	م	ا	ن
ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا
ی	ن	ق	ی	ع	د	ث	م	ل	و
و	ل	ہ	ق	ی	ا	ث	ا	ا	ل

نتیجہ	آیت	تراجم و حروف
لاخیر فیہ اچھی نہیں	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْصُصُوا رُؤْيَاكُمْ عَلَىٰ إِخْوَانِكُمْ فَيَكِيدُوا بِكُمْ وَإِنَّكُمْ لَتَكُونُونَ مِنْهُم مُّؤْمِنِينَ كَمَا كُنْتُمْ مِنْهُمْ قَبْلَ هَٰذَا لَا تَذَكَّرُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّا جَعَلْنَا دَاوُدَ وَهَارُونَ بَنِي إِسْرَائِيلَ آيَاتٍ لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَهْتَدِيَ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرْمَأَتْكُمْ بِالْأَفْتِنَةِ	حرف اول پہلا حرف
لاخیر فیہ اچھی نہیں	اور جو نمائش پہنے تملکو دکھائی اُسکو رلوگوں کے لئے آزمائش کیا	حرف ثانی دوسرا حرف
خیر فیہ اچھی ہے۔	وَيَتِمُّ وَيَتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا اتَّهَمَّا	حرف ثالث تیسرا حرف
خیر فیہ اچھی ہے	اور جس طرح اُس نے اپنی نعمت پہیلے تمہارے داد اور داد اور ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی اسی طرح تم پر اور اولاد تم پر	حرف ابع چوتھا حرف
خیر فیہ اچھی ہے	هٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلْتُهَا آيَةً حَقًّا	حرف خامس پانچواں حرف
خیر فیہ اچھی ہے	یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے (دیکھنے میں) دیکھا تھا میرے پروردگار نے اسے سچ کر دیا اے میرے پروردگار تو نے مجھ کو حکومت سے (بہرہ) دیا اور (خوابوں کی) تعبیر کا علم عطا فرمایا	حرف خامس پانچواں حرف

مشتق‌های حیوانات نافع‌آمده

حیوانات کا خریدنا سود مند ہے یا نہیں

ب	س	ن	ل	ل	س	و	ا	ا	ا
ا	و	ر	ن	ی	ح	ر	س	ا	خ
ا	ب	ا	ا	و	ن	ه	ا	ع	ل
ذ	م	و	ل	ل	ل	د	م	ا	ا
س	ب	ب	ل	ع	ن	ا	ا	ب	ب
ر	س	ن	ر	ل	خ	ع	ح	ا	ا
ن	ر	ا	ذ	ا	د	د	ث	و	و
ه	ه	ل	ل	ح	ا	ل	ل	ل	ل
ا	م	ا	ث	ی	ذ	م	ه	م	م
م	د	ه	ع	ل	و	ع	ل	ر	ر
ا	د	ا	ل	ر	ا	و	م	ا	ث
ا	و	ب	ی	ب	ن	ث	ل	ح	ا
ه	ا	م	ث	ه	ل	ا	ا	و	و
ی	و	ل	ل	و	م	ن	ا	ا	ا
ن	ف	ذ	ن	ی	ر	ا	ل	د	ز
ن	ه	ن	ا	ث	ی	ی	ی	ی	ن

شمار حروف	آیت	نتیجہ
حرف اول پہلا حرف	الْحَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ لِتَرْكِبُوها وَزِينَتُهُ	نافع باذن اللہ وہ کے حکم سے سو مند ہے
حرف ثانی دوسرا حرف	الْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا	نافع باذن اللہ خدا کے حکم سے سو مند ہے
حرف ثالث تیسرا حرف	إِنَّ شَرَّ الدِّينِ عِنْدَ اللَّهِ الصَّمَمُ الْبَلْمُ الَّذِينَ	غیر نافع سو مند نہیں
حرف رابع چوتھا حرف	وَشَرُّهُ يَمِينٌ جَسِدٌ كَرَاهِمٌ مَعْدُودَةٌ كَانُوا فِيهِ	غیر نافع سو مند نہیں
حرف خامس پانچواں حرف	سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ	نافع سو مند ہے

(اسی نے گھوڑے اور بچر اور گدھے بھی پیدا کیے ہمارے ہاں کہ
ان پر سوار ہو اور وہ تمہارے لیے ہڈوں کی وزینت (بھی میں)
موشی اور کھیتی۔ یہ دنیاوی زندگی کے سامان ہیں۔

کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں کے بدرجہا
گوئے ہیں (جو کچھ نہیں سمجھتے)

اور اسکو تھوڑی سی قیمت یعنی معدود چند درہمن یا
سج ڈالا اور وہ اس کے پاس میں (بے رغبت) تھے

وہ (ذات) پاک ہے جس نے اسکو ہمارے زیر
قرآن کریم اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو
بس میں کر لیتے

مشتري لعيدنا فاع ام لا
 غلام کا خریدنا نفع ديگا يا نهين

خ	و	و	ف	ف	ر	ا	ت	ب	ا
ب	ذ	ل	س	ب	ا	ا	ا	ر	ا
ل	س	ن	ع	ع	ل	ا	ل	و	ا
ه	ل	م	ا	ا	م	ا	ا	م	و
ث	ع	ث	ا	ن	ل	و	م	و	ا
ا	ا	ن	ذ	ا	ع	و	ه	ل	ا
ب	ا	ا	ن	ل	د	ع	ل	ي	ه
ا	ن	ل	س	ا	م	ي	ي	ن	ل
م	م	ا	م	ر	ل	ا	ن	ل	ن
و	ن	ع	و	ق	ا	ي	ب	ن	و
ا	ا	د	ا	ا	ل	ر	ن	ل	م
ا	ي	ب	ق	ب	ي	ب	ن	و	د
ق	ا	ا	ل	و	د	ج	ا	ف	ه
ر	ي	س	ي	و	ع	ر	ر	ا	ا
ل	د	ا	ب	س	ي	ع	ل	ع	ك
س	و	ي	و	ر	ي	ن	ل	ن	و

شمار حروف	آیت	نتیجہ
حرف اول پہلا حرف	حَرْبِ اللَّهِ مَثَلًا لِّمَنْ لَّمْ يَأْتِ اللَّهَ بِقُرْبَانٍ يُقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ	غیر نافع نفع نہیں ہوگا
حرف ثانی دوسرا حرف	وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُهُمْ دَعْوَاهُ	نافع باذن اللہ خدا کے حکم سے نفع ہوگا
حرف ثالث تیسرا حرف	وَتِلْكَ نِعْمَةٌ مِّنَّا عَلَىٰ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ	نافع باذن اللہ خدا کے حکم سے نفع ہوگا
حرف رابع چوتھا حرف	فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ	نافع باذن اللہ خدا کے حکم سے نفع ہوگا
حرف خامس پانچواں حرف	فَايْتَعُوا عِنْدَ اللَّهِ الرَّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَأَشْكُرُوا	نافع باذن اللہ خدا کے حکم سے نفع ہوگا

خدا ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو رب بالکل دوسرے کے اختیار میں ہے اور کسی چیز کا کچھ مفکر نہیں ہے۔

اور جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو (بہت) نزدیک ہوں بلا اور جب کوئی پچگانے والا مجھے پچارتا ہے تو میں اسے دعا قبول کرتا ہوں۔

اور یہی احسان ہے جو تم مجھ پر رکھتے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے

تو میرے بندوں کو بشارت سنا دو۔ جو بات کو سنے اور ایمانی باتوں کو پیر ہی کرتے ہیں

تو خدا ہی کے من (سے) رزق طلب کرو۔ اور اسی کی عبادت کرو۔ اور اسی کا شکر کرو۔

القرض والذین یتصلان به

قرض سے گا یا نہیں

ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا
ذ	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا
ی	م	ل	ن	ن	ن	ن	ن	ن	ن
ر	ہ	م	ا	ل	ع	ق	ن	ہ	ل
ا	د	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا
ل	ن	ذ	ا	ل	ہ	ا	ی	ا	ب
ن	ر	ن	م	ب	ر	ل	ا	ن	ا
ق	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا	ا
ل	و	و	ا	ا	س	ع	ا	ا	ا
ن	د	و	م	ا	ا	ہ	ا	ن	ا
ا	ا	ل	ہ	م	ی	ل	ذ	ب	ض
ق	ی	ی	ا	ا	ا	ا	ن	ن	ع
ع	ا	ہ	ط	ف	ا	ا	م	ا	ا
ہ	ا	م	ر	و	ل	م	ح	ی	ا
ہ	ا	س	و	ا	و	و	ن	ع	ق
ل	م	و	و	و	ہ	ت	ن	ہ	ا

غلہ قرض اور دین میں یہ فرق ہے کہ قرض میں ادا کرنے کی ميعاد معين نہیں ہوتی۔ دین میں مقرر ہوتی ہے۔

نتیجہ	آیت	شمار حروف
<p>یتحمل لے گا</p>	<p>الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا سَلًا فِيضَاعَفَهُ لَهُ وَكَه کون سے جو خدا کو نیک اور رخصت نیت سے قرض دے تو وہ اس کے دو گنا اور اس کے لئے (عزت کا صلہ یعنی حیت ہی</p>	<p>حرف اول پہلا حرف</p>
<p>لا یتحمل ہیں لے گا</p>	<p>إِنْ تَأْمَنَهُ بِنَارٍ لَا يُؤَدُّهَا إِلَىٰ مَا دُمَّتْ داور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر تم اسکے پاس ایک نیا امان نہ دیکھو تو جب تک اس کے سر پر کھڑے نہ رہو مت کو دے ہی نہیں</p>	<p>حرف ثانی دوسرا حرف</p>
<p>یتحمل لے گا</p>	<p>إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ أَحْسَنُونَ کچھ شک نہیں کہ جو پرہیزگار اور نیکو کار ہیں خدا ان کا مددگا رہے۔</p>	<p>حرف ثالث تیسرا حرف</p>
<p>یتحمل لے گا</p>	<p>وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدُّه اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اسکے پاس (روپیوں کا) ڈھیر امان رکھ دو تو تم کو فی الفوج واپس دے</p>	<p>حرف رابع چوتھا حرف</p>
<p>لا یتحمل ہیں لے گا</p>	<p>لَتَأْتِيَ كُلُّهُمْ نَارُ الْجَهَنَّمَ مُضَاعَفَةً وَالسَّوَاءُ (مسلمانوں) دگنا چو گنا سود نہ کھاؤ۔ اور (مضاعفہ) دو</p>	<p>حرف خامس پانچواں حرف</p>

باجازت مولوی فتح محمد خان صاحب
حافظ سلطان احمد مالک سلطان اکیبسی لاہور نے
شائع کیا

آخری درج شدہ تاریخ پر یہ کتاب مستعار
لی گئی تھی مقررہ مدت سے زیادہ رکھنے کی
صورت میں ایک آنہ یہ دیرا نہ لیا جائے گا۔

مکتبہ جامعہ اسلامیہ

جامعہ اسلامیہ

- ۱۔ اگر کسی نے اس کتاب کو پڑھا تو اس کا اجر ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا۔
- ۲۔ اس کتاب کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا۔
- ۳۔ اس کتاب کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا۔
- ۴۔ اس کتاب کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا۔
- ۵۔ اس کتاب کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا۔
- ۶۔ اس کتاب کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا۔
- ۷۔ اس کتاب کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا۔
- ۸۔ اس کتاب کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا۔
- ۹۔ اس کتاب کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا۔
- ۱۰۔ اس کتاب کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا۔

عبارت ہوگی۔
ماہ ہجری ۱۰۸۰
یہ کتاب جامعہ اسلامیہ
مکتبہ اسلامیہ
مکتبہ اسلامیہ

